

فوربز نے سٹی آف برامپٹن کو 2021 کے بہترین آجروں میں سے ایک قرار دے دیا

برامپٹن، آن (27 جنوری 2020) – سٹی آف برامپٹن کو فوربز کی جانب سے کینیڈا کے 300 چوٹی کے آجریں کی فہرست میں سے [کینیڈا بیسٹ ایمپلائرز 2021](#) کے طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے۔

یہ مسلسل تیسرا سال ہے، جب سٹی فوربز کی فہرست میں آیا ہے۔ اس سال، سٹی کا درجہ 300 میں سے 58 تھا۔

فوربز نے کینیڈا کے بہترین آجروں کی سالانہ درجہ بندی کرنے کے لیے، ملازمین کی پسندیدہ ترین کمپنیوں کی نشاندہی کرنے کے لیے مارکیٹ ریسرچ کمپنی اسٹیٹسٹا (Statista) کے ساتھ شراکت داری کی۔

فوربز اور اسٹیٹسٹا نے ایک خودمختار سروے کے ذریعے کینیڈا کے 2021 کے بہترین آجروں کا انتخاب کیا، جس کا کینیڈا میں 500 سے زیادہ ملازمین کے ساتھ کام کرنے والی کمپنیوں کے 8,000 سے زائد کینیڈین ملازمین کے وسیع نمونے پر اطلاق کیا گیا۔ یہ جائزہ ملازمین کی جانب سے بلا واسطہ اور بالواسطہ سفارشات پر مبنی تھا، جنہیں کسی دوستوں اور رشتہ داروں کو اپنے آجروں کی سفارش کرنے پر رضامندی کی درجہ بندی کرنے کا کہا گیا تھا۔ ملازمین کے جائزوں میں ان کے متعلقہ شعبوں میں دیگر آجر بھی شامل تھے، جو مثبت یا منفی طور پر نمایاں تھے۔

فوری حقائق

- نومبر 2019 میں، سٹی آف برامپٹن نے ایک پانچ سالہ ورک پلیس ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن اسٹریٹیجی اینڈ ورک پلان تیار کیا۔ اس میں ایک ایسی مزید جامع تنظیمی ماحول کو فروغ دینے کے مواقع کی نشاندہی کی گئی ہے، جو اپنے لوگوں کو وابستہ رکھے، ترقی دے اور سرباے اور ایک تنوع افرادی قوت کو اپنی جانب راغب کرے۔
- دسمبر میں، سٹی نے اعلان کیا کہ یہ اپنے ملازمین اور شہریوں کی خدمت کے لیے ایک ایکوٹی آفس کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ ایکوٹی آفس نسل، شجرہ نصب، آبائی جگہ، رنگ، نسلی پس منظر، معذوری، شہریت، قوم، جنس، جنسی رجحان، جنسی شناخت، ہم جنس شراکت داری، عمر، ازدواجی حیثیت، خاندانی حیثیت، تارک وطن کی حیثیت، عوامی معاونت کی وصولی، سیاسی وابستگی، مذہبی وابستگی، خواندگی کے درجے، زبان اور/یا سماجی و معاشی حیثیت سے قطع نظر جائے کار اور کمیونٹی میں موجود رکاوٹوں کی شناخت کرنے اور انہیں ختم کرنے پر توجہ مرکوز کرے گا۔

اقتباسات

"سٹی آف برامپٹن ایک اچھی طرح چلایا جانے والا شہر ہے اور ہمارے ملازمین ہمارے رہنشیوں کے لیے ایک ایسی کمیونٹی بنانے کے لیے وقف ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ مسلسل تیسرے سال، فوربز کی جانب سے کینیڈا کے چوٹی کے آجر کے طور پر تسلیم کیے جانے پر ہم فخر محسوس کرتے ہیں!" ہم اپنے عملے، چاہے سابقہ یا موجودہ، کے لیے پسندیدہ آجر کے طور پر برقرار ہیں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن نگینوں سے جڑا ہوا ہے اور سٹی میں، ہم ایک ایسا متنوع افرادی قوت بنانا جاری ہیں، جو ہماری کمیونٹی کی عکاسی کرے۔ ہمارے ورک پلیس ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن اسٹریٹیجی اینڈ ورک پلان اور ایکوٹی آفس جیسے اقدامات کے ذریعے، ہم تمام افراد کے ساتھ جائز اور منصفانہ سلوک اور سٹی کے تمام عملے کے لیے ایک ہم آہنگ ماحول کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔"

- برکرات سنگھ، چیئر، کارپوریٹ سروسز؛ سٹی کونسلر، وارڈز 9 اور 10، سٹی آف برامپٹن

"سٹی جائے کار پر رکاوٹیں ختم کرنے کے لیے اقدامات کرنا جاری ہے، تاکہ یہ تمام لوگوں کے لیے جائز اور منصفانہ ہو سکے۔ ہم اپنے ملازمین کے لیے مواقع پیدا کرنے کے لیے وقف ہیں، جو ہمارے رہنشیوں کی خدمت کرنے اور جائے کار کا ایک مشمول اور مشغول کن ماحول بنانے میں اتنی لگن رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر، فوربز کی جانب سے کینیڈا کے بہترین آجروں میں سے ایک کے طور پر تسلیم کیے جانے پر ہم فخر محسوس کرتے ہیں!"

- رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5؛ وائس چیئر، کارپوریٹ سروسز، سٹی آف برامپٹن

"فوربز کی جانب سے مسلسل تیسرے سال کے لیے ہمارے ملازمین کا ہمیں کینیڈا کے بہترین آجروں میں سے ایک کے طور پر منتخب کرنا ایک ایسے مشمول ماحول کے فروغ کے لیے سٹی کے جذبے کی مثال پیش کرتا ہے، جو ہمارے لوگوں کو مشغول کرے، ترقی دے اور سراہے اور ایک متنوع افرادی قوت کو کھینچ لائے۔ میں اپنے ملازمین، ان کے اعتماد اور ہماری تنظیم میں ان کے کردار کو تسلیم کرنا چاہوں گا؛ جو برامپٹن کے رہائشیوں کے لیے مسلسل نتائج فراہم کر رہے ہیں اور ہماری متنوع کمیونٹی سے توانائی حاصل کرتے ہیں۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca